



محدث فلوبی

## سوال

(634) دس برس کی عمر کا عمدائج کو ترک کرے تو کیا حکم ہے؟

## جواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ اگر کوئی رکا دس برس کی عمر میں نمازنہ پڑھے تو اس کو مارنے کا حکم ہے۔ ایسا ہی اگر کوئی رکا دس برس کی عمر کا (حوالہ حاصل ہے) عمدائج کو ترک کرے تو اس کو کیا کریں۔ (محمد تھجی ذکور)

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحیح السؤال

و عليکم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

نمازنہ پڑھنے پر مارنے کا حکم آیا ہے۔ حج کے متعلق یہ نہیں آیا اس لئے ہم کچھ نہیں کہ سکتے۔ کہ دس سال کے بچے کو حج نہ کرنے پر مارنا چاہیے۔ بحالیکہ حج نہ کرنے پر بڑے کو بھی مارنے کا حکم نہیں آیا ہے۔

هذا ما عندی والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ شتاہیہ امرتسری

جلد 01 ص 795

محمد فتویٰ